



اَعْلَمْ ! يَهُ جَبَرِيلُ عَيْنَيْنِ ، جَوَ تَمَ كَوْ سَلَامٌ كَهُ رَهْ عَيْنَيْنِ مِنْ نَهْ
كَهَا : اَنْ پَرْ سَلَامَتِي ، اللَّهُ كَى رَحْمَتٍ اُورَ اَسْ كَى بَرَكَتِيْنِ نَهْونَ
مِنْ جَوَ نَهْيَنِ دِيْكَهُ پَاتِيْ آپَ اَسَ دِيْكَهُتَهُ عَيْنَيْنِ

عائشہؓ صدیقؓ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : "اَعْلَمْ ! يَهُ جَبَرِيلُ عَيْنَيْنِ ، جَوَ تَمَ كَوْ سَلَامٌ كَهُ رَهْ عَيْنَيْنِ" میں نہ کہا : ان پر سلامتی، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نہونَ رحمت اور اس کی برکتیں نہونَ میں جو نہیں دیکھے پاتی آپ اسے دیکھتے ہیں ایسا کہتا ہے وہ عائشہؓ رضی اللہ عنہا کی مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھیں

[صحیح] [متفق علیہ]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہا : ان پر سلامتی، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نہونَ اے اللہ کے رسول ! میں جو نہیں دیکھے پاتی آپ اسے دیکھتے ہیں ان کے نہ کا مطلب یہ تھا کہ آپ تو جبriel کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ ان کو دیکھ نہیں پاتیں

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/11178>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

